

Osloskolen (اوسلو کے سکولوں)

میں خوش آمدید



سکول کا پہلا دن زندگی کا ایک اہم دن ہوتا ہے - بچے کیلئے بھی اور اس کے گھرانے کیلئے بھی۔ سکول اور سرپرستوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کیلئے آغاز اچھا ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ سکول شروع کرنے والے بچے کے سرپرست کی حیثیت سے آپ سب کو ساتھ لے کر چلنے والے سکول کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے جہاں طالب علم مل کر سیکھیں اور خوش و خرم رہیں۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے بچے کیلئے سکول کا آغاز اچھا ہو اور اسے سیکھنے کی خواہش پیدا ہو۔

سب بچوں کو تعلیم و تربیت کا حق حاصل ہے

نظم و ضبط کے اصول

اوسلو کے سکولوں میں نظم و ضبط اور رویے کے مشترکہ ضوابط ہیں۔ سکول اضافی قواعد طے کر سکتا ہے۔ نظم و ضبط کے اصولوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر طالب علم اصولوں کی خلاف ورزی کریں تو سکول کا ردعمل کیا ہو گا۔

والدین کی میٹنگیں

سکول اور گھر کے درمیان اچھا تعاون طالب علم کی ترقی اور فلاح کیلئے اہم ہے۔ والدین کی میٹنگوں میں سکول کام کے طریقوں اور تعلیم کے انتظام کے بارے میں معلومات دیتا ہے۔ میٹنگوں میں کلاس اور سکول کے ماحول پر بھی بات چیت ہوتی ہے اور سرپرست متعلقہ معاملات اٹھا سکتے ہیں۔

سکول کی ہیلتھ سروس اور دانتوں کی صحت کی سروس

سکول میں سکول نرس ہوتی ہے جس سے طالب علم اور سرپرست رابطہ کر سکتے ہیں۔ سکول کی ہیلتھ سروس طالب علموں کیلئے مفت حفاظتی ٹیکوں اور صحت کیلئے رہنمائی بھی فراہم کرتی ہے۔ 18 سال کی عمر کو پہنچنے تک طالب علموں کو دانتوں کے مفت علاج کا حق حاصل ہے۔ سب طالب علموں کو دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس معائنے کی دعوت ملتی ہے۔ جو لوگ دانتوں کی صحت کی سرکاری خدمات سے استفادہ نہ کرنا چاہیں، انہیں تمام اخراجات خود ادا کرنے پڑتے ہیں۔

سکول کے آغاز سے پہلے اگر بچے ان کاموں کی مشق شروع کر دیں تو اچھا ہے:

- ✓ خود کپڑے پہننا اور جوتوں کے تسے باندھنا
- ✓ ٹائلٹ میں خود کو سنبھالنا
- ✓ وارڈروب میں کپڑوں کو طریقے سے رکھنا
- ✓ بستے کی چیزوں کو ترتیب سے رکھنا
- ✓ اپنی باری کا انتظار کرنا
- ✓ ساتھ لایا ہوا کھانا کھانے کی مشق کرنا

سکول کا محفوظ اور اچھا ماحول

تمام طالب علموں کا حق ہے کہ سکول میں ان کے حالات اچھے ہوں۔ سکول کے اچھے اور محفوظ ماحول سے صحت، اطمینان اور تحصیل علم کو فروغ ملتا ہے۔ سکول اور ایکٹیویٹی سکول (AKS) میں کام کرنے والے یہ دھیان رکھیں گے کہ طالب علموں کا کیا حال ہے۔ اگر آپ کے بچے کو یا آپ کے کسی واقف بچے کو سکول میں موبنگ (ستائے جانے) یا دلآزاری کا سامنا ہو تو ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ سکول کو بتائیں۔

تعلیم کا حق اور فرض

ناروے میں رہنے والے سب بچوں کا حق اور فرض ہے کہ وہ ہائی سکول کی تعلیم حاصل کریں۔ آپ سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو تعلیم ملے۔

قریبی سکول اور سکول بدلنا

طالب علموں کے رہائشی پتے سے طے ہوتا ہے کہ طالب علم کو کس سکول میں جگہ ملے گی۔ سکول بدلنے کیلئے آپ کو اس سکول کو خط یا ای میل بھیجنا چاہیے جہاں آپ اپنے بچے کو بھیجنا چاہتے ہوں۔

تعلیمی سال

ہر تعلیمی سال میں طالب علم 190 دن سکول میں حاضر ہوں گے۔ سرپرست کے طور پر یہ یقینی بنانا آپ کا فرض ہے کہ طالب علم ہر روز سکول میں حاضر ہو۔

بیماری کی چھٹی

اگر ایک طالب علم بیمار ہو اور سکول نہ آ سکتا ہو تو آپ پر سکول کو اطلاع دینا لازم ہے۔ اگر بیماری کی وجہ سے تین دن سے زیادہ غیرحاضر رہنا پڑ رہا ہو تو ثبوت کے طور پر ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ پیش کریں۔ اس سے زیادہ لمبی بیماری کی صورت میں سکول اور سرپرست غور کریں گے کہ آیا بچے کو گھر پر تعلیم دینا مناسب ہے۔

رخصت

اوسلو کے سکولوں میں سکول سے رخصت کے خاص قواعد ہیں۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ طالب علموں کو سیروسیاحت، کھیل کی پریکٹس وغیرہ کیلئے یا ٹیسٹوں کے دنوں میں رخصت نہیں مل سکتی۔ اگر طالب علم 14 دن سے زیادہ سکول سے غیر حاضر رہے تو اس کا نام خارج کر دیا جاتا ہے۔

طالبعلم کیا اور کیسے سیکھیں گے؟

مضامین اور اہلیتیں

سکول کے ابتدائی سالوں میں بچے بنیادی اہلیتیں جیسے پڑھنا، لکھنا اور حساب کرنا سیکھیں گے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، ایک دوسرے کی بات سنا، اپنے خیالات اور آراء کا اظہار کرنا اور اچھا دوست بننا بھی سیکھیں گے۔

بنیادی اہلیتیں

- ★ پڑھنا
- ★ لکھنا
- ★ حساب کرنا
- ★ ڈیجیٹل آلات استعمال کرنا
- ★ زبانی اظہار کے قابل ہونا

موزوں بنائی گئی تعلیم

تمام طالبعلموں کو ان کی صلاحیتوں اور امکانات کے مطابق موزوں تعلیم دی جائے گی۔ طالبعلموں کو کئی طریقوں سے تعلیم دی جاتی ہے۔ پوری جماعت کے ساتھ، کمرہ جماعت میں اور باہر چھوٹے گروپوں میں، استاد کے ساتھ اکیلے یا ہم جماعتوں کے ساتھ باہر دوروں پر۔ طالبعلموں کو ایک گروہ سے وابستگی کا احساس ہو گا خواہ تعلیم طالبعلموں کی مختلف ضروریات کے مطابق موزوں طور پر دی جا رہی ہو۔

خصوصی تعلیم

جو طالبعلم عام تعلیمی پیشکش سے استفادہ نہ کر رہے ہوں یا نہ کر سکتے ہوں، انہیں خصوصی تعلیم لینے کا حق ہے۔ سکول غور کرتا ہے کہ آیا ایک طالبعلم کو خصوصی تعلیم کی ضرورت ہے اور تعلیم کیلئے نفسیاتی سروس (PPT) میں ماہرانہ جائزے کیلئے رابطہ کروا سکتا ہے۔

اقلیتی لسانی پس منظر رکھنے والے طالبعلم

جن طالبعلموں کی مادری زبان نارویجن اور سامی کے علاوہ کوئی اور ہو، انہیں تب تک نارویجن زبان کی خصوصی تعلیم پانے کا حق حاصل ہے کہ وہ تعلیم سے استفادے کیلئے کافی نارویجن سیکھ جائیں۔ انہیں کلاس میں اور/یا الگ گروپوں میں اضافی تعلیم کی پیشکش مل سکتی ہے۔ اگر ضروری ہو تو طالبعلموں کو مادری زبان کی تعلیم اور/یا دو زبانوں کی تعلیم کا حق بھی حاصل ہوتا ہے۔

طالبعلموں کی جانچ اور پیش رفت کے بارے میں گفتگو

سکول ہر طالبعلم کی تعلیمی اور سوشل پیش رفت پر نظر رکھے گا۔ طالبعلموں کو اس بارے میں بتایا جائے گا کہ وہ کن چیزوں میں ماہر ہیں اور کن چیزوں پر انہیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام مضامین اور نظم و ضبط میں طالبعلموں کی ششماہی جانچ کی جائے گی۔ پرنسپل فیصلہ کرتا ہے کہ آیا ششماہی جانچ تحریری اور/یا زبانی ہو گی۔ ششماہی جانچ کا نتیجہ طالبعلم کے ساتھ بات چیت کے موقع پر دیا جا سکتا ہے جو رابطہ استاد اور طالبعلم کے درمیان سال میں کم از کم دو بار ہوتی ہے، اور سرپرستوں کے ساتھ پیش رفت کے بارے میں بات چیت کے موقع پر بھی جانچ کا نتیجہ دیا جا سکتا ہے۔

تیراکی

تیراکی فزیکل ایجوکیشن مضمون کا حصہ ہے لیکن یہ سکول اور گھر کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ طالبعلم پانی سے شناسا بنیں اور تیرنا سیکھیں۔ یہ اہم ہے کہ بچے چھوٹی عمر سے ہی پانی میں محفوظ محسوس کرنا سیکھیں۔

ایکٹیوٹی سکول (AKS)

AKS سکول میں پڑھائی کے اوقات سے پہلے اور بعد میں سرگرمیوں کی پیشکش ہے جو یکم اگست سے کھلتی ہے۔ سکول کا آغاز کرنے والے اکثر بچوں کیلئے سکول سے اولین واسطہ AKS کی شکل میں ہوتا ہے۔ AKS کھیل اور سکول کے ساتھ اشتراک کار سے تعلیم مہیا کرنے کے ذریعے بچوں کی تعلیمی اور سوشل نشوونما میں مدد کرتا ہے۔ یہاں داخلے کیلئے درخواست دینا ضروری ہے۔ 69 سکولوں میں پہلی جماعت کے طالبعلموں کو 2018/2019 میں AKS کی مفت پیشکش حاصل ہے۔

پہلی اور دوسری جماعت میں مضامین

- ★ نارویجن
- ★ حساب
- ★ نیچرل سائنسز
- ★ انگلش
- ★ معاشرتی علوم
- ★ فنون و دستکاری
- ★ میوزک
- ★ فزیکل ایجوکیشن
- ★ عیسائیت، مذاہب، نظریات حیات اور اخلاقیات (KRLE)

